

6389 - آپ اسے کرگزریں اور اس میں کچھ بھی تردد نہ کریں

سوال

یری عمر ستائیس برس ہے اور میں امریکہ میں رہائش پذیر ہوں ، کچھ مہینوں کے بغور مطالعہ کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بلا شک و شبہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح اور صحیح اور کامل دین ہے ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بہت ہی زیادہ غضبناک مناقشہ و جدال پیدا ہوا لیکن بغور جائزہ لینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قرآن مجید کے ساتھ بالکل صحیح طور پر ملتا ہے ۔

میں ابھی مسلمان تو نہیں ہوا لیکن صرف اپنے صدق میں اضافہ اور صادق بننے کے لیے ابھی تک کچھ تردد ہے ، اسلام کا مطالعہ کرنے اور اس کا اپنے دل میں یقین ہوجانے کے بعد بہت ہی مشکل ہے کہ میں اپنی مذہب عیسائیت کے بارہ میں شعور کا اظہار کر سکوں اس لیے کہ تقریباً بچپن سے لے کر آج تک تقریباً صدی کا چوتھا حصہ میں نے نصرانیت میں گزارا ہے ۔ ان گرمیوں میں اپنی پڑھائی عربی میں شروع کی ہے اور اب آئندہ گرمیوں میں یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک مدرسہ کے داخلہ کی پلاننگ بنا رہا ہوں تا کہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں ۔

میرا سوال یہ ہے کہ :

کیا اب حقیقی طور پر اب مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں آخری قدم اٹھاؤں اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جن عیسائیوں کو شک ہے وہ اپنی سزا پا کر رہیں گے ، میں نے شریعت اسلامیہ کی سب تعلیمات پر عمل کرنے کا تجربہ کیا ہے ، مثلاً نماز ، اخلاقیات ، عورتوں کے ساتھ تعلقات ، کھانے وغیرہ کی اقسام و انواع ، الخ ۔۔۔۔۔

تو کیا یہ ضروری ہے کہ اب یہ اہم قدم اٹھا لیا جائے ، اور اگر میں یہ قدم اٹھاتا ہوں تو کیا مجھے اسلامی نام رکھنا ضروری ہے یا کہ نام بدلنا صرف مستحب ہے ، اور کیا اسماعیل نام مناسب ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

آپ کے سوال کی ہمارے نزدیک بہت قدر ہے ، آپ کے مطالعہ اور تعلیمات کے حصول کی کوشش کرنا بھی ایسا معاملہ ہے جس پر آپ کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرنا چاہیئے جس سے آپ عظیم اور صحیح نتائج تک پہنچے ہیں ۔

ہمارا جب یہ اعتقاد ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ضروری اور واجب ہے ، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو باقی

سب ادیان کا نسخ بنا کر نازل فرمایا ہے ۔

تو ہم بھی ان مشکلات اور صعوبات کو محسوس کرتے اور ان کا شعور ہو رہا ہے جو آپ اپنے دین کو چھوڑنے پر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی اس دین کے ساتھ کچھ عادات اور الفت تھی جو کہ اب ختم ہو رہی ہے ۔

لیکن عقل مند شخص یہ جانتا ہے کہ اسے حق کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیئے اگرچہ اسے اس حق کا ادراک بہت ہی زیادہ لمبے عرصے اور سالوں بعد ہی کیوں نہ ہو ، چاہے وہ حق کے علاوہ کسی مخالف پر ہی پرورش پا کر جوان ہوا ہو ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کرتے ۔

اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا :

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں المائدۃ (104) ۔

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا :

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس راہ پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے ، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو لقمان (21) ۔

اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا :

اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم نے انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں ، (نبی نے) کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس بہت بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا الزخرف (23 - 24) ۔

اور آپ پر یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہوگا ، ان شاء اللہ جب آپ حقیقی طور پر اسلام پر ایمان لائیں تو آپ پہلے گزرے ہوئے سب انبیاء پر بھی ایمان لائیں اور جتنی بھی پہلی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھیں گے ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا :

اے ایمان والو ! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ہیں ان پر ایمان لاؤ ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا النساء (136)

جب آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ اصلی چیزوں سے کٹ نہیں جائیں گے ، بلکہ ہر مسلمان مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور اسی طرح صحیح اور بغیر تحریف کے انجیل پر بھی اس کا ایمان ہے کہ وہ تحریف سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی ۔

اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ آپ کو یہ اسلام قبول کرنے پر ابھاریے آپ اپنے علم میں رکھیں کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے اسے ڈبل اجر ملے گا ، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی عیسائے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا جس میں دعوت اسلام دیتے ہوئے کہا :

بسم اللہ الرحمن الرحیم ، یہ خط اللہ تعالیٰ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف ۔

سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے ۔

اما بعد :

میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے اسلام قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر سے نوازگا ، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے اعراض کیا تو تجھ پر بہت سخت گناہ ہوگا

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں آل عمران (64) ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (2723) ۔

مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

(تین قسم کے لوگوں کو ڈبل اجر و ثواب دیا جائے گا ، اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی پایا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی پیروی اور ان کی تصدیق کی تو اسے

ڈیل اجدیا جائے گا (صحیح مسلم حدیث نمبر (219) -

تو اس بنا پر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ :

جی ہاں یہ بہت اہم بلکہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر ایک سعادت مندی اور اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے ساتھ انس و محبت اور عبادت کی لذت کی طرف بدل ڈالے ۔

اس کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اجر و ثواب حاصل کر کے اس دن کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنائیں جس انسان ایک ایک نیکی کا محتاج اور ضرور تمند ہوگا ، اس دن ہر ایک شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

جس دن ہر شخص اپنی کی ہونیکوں کو اور اپنی کی برائیوں کو موجود پائے گا ، اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش ! اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے آل عمران (30) ۔

اور نام کے متعلق آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر نام میں کسی قسم کا شرک یا کفر نہیں پایا جاتا تو وہ نام جائز ہے ، اور اسماعیل نام بھی مناسب اور اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے اور باپ بیٹا دونوں نبی تھے :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑے ہی سچے وعدہ والا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی ، اور وہ اپنے گھروالوں کو برابر نماز اور زکاۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول مریم (54 - 55) ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے توفیق طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رضا اور محبوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی راہنمائی کرے اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور وہ ہدایت پر آنے والے لوگوں کو جانتا بھی ہے ۔

واللہ اعلم .